

شیڈول آف چارجز

(ایف ای ڈی / سیلز ٹیکس کے بغیر)

موثر بہ یکم جولائی 2019 تا اکتیس دسمبر 2019



ICBC

مندرجات

3		جنرل بینکاری
3		اے) اکاؤنٹ منیجمنٹ
4		بی) سیٹلمنٹ سروس
4		سی) ریٹنس
5		ڈی) پی آر ڈر
5		ای) آن لائن بینکاری
5		ایف) متفرق
6		جی) ڈیٹ کارڈ
6		ایچ) بلا معاوضہ سروس
7		آئی) برآمدات
7		ٹریڈ فنانس
7		اے) برآمدات
7		بی) درآمدات
9		سی) ضمانتیں
10		ڈی) ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ
11		ای) انضمامی واکتسابی مشاورتی خدمات
12-13		جنرل

جنرل بینکاری

معیاری چارجز	سروس
	اے) اکاؤنٹ مینجمنٹ
	1۔ پرنٹل اکاؤنٹ
	کم از کم ماہانہ اوسط بیان کردہ بیلنس نہ رکھنے پر چارجز
ہر ماہ -/50 روپے (ٹیکس شامل ہے) یا اس کے مساوی FCY میں، اگر FCY پروڈکٹ ہے۔	سروس چارج وصول کئے جائیں گے ہر کرنٹ/پی ایل ایس اکاؤنٹ پر جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بیان کردہ بیلنس حد سے کم ہو
	ماہانہ اوسط کی کم از کم حد یا اس کے مساوی FCY
* خاص ریٹ صرف ویلجورڈ کسٹمرز پر لاگو ہونگے	
200,000/- روپے	پرنٹل سیویگ اکاؤنٹ
100,000/- روپے	پرنٹل کرنٹ اکاؤنٹ
500/- روپے یا -/5 یو ایس ڈالر پر اکاؤنٹ	پرنٹل اکاؤنٹ کھلوانے کے چارجز
30/- روپے	غیر معمولی تبدیلی بینک بک میں
300/- روپے	بینک بک گم ہو جانا
	ڈپلیکٹ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس
لاگو نہیں	تین ماہ کے اندر
35/- روپے نی ہدایت (ٹیکس شامل ہے)	تین ماہ سے زیادہ
* خاص ریٹ صرف ویلجورڈ کسٹمرز پر لاگو ہونگے	2۔ بزنس اکاؤنٹ
	بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے چارجز
5000/- روپے ہر اکاؤنٹ کھلوانے پر۔	کارپوریٹ اکاؤنٹ
پانچ ملین کا ابتدائی ڈپازٹ دس کام کے دنوں میں جمع یا منتقل کروانا ہوگا۔ اگر تعین شدہ وقت میں منتقل یا جمع نہیں کیا جاتا تو بینک ممکنہ طور پر اپنی صوابدید پر اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے۔	
ہر ملازم کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کم از کم -/1000 روپے درکار ہیں	کارپوریٹ صارفین کے ملازمین کے اکاؤنٹ
	کم از کم ماہانہ اوسط بیان کردہ بیلنس نہ رکھنے پر چارجز
ہر ماہ -/50 روپے (ٹیکس شامل ہے) یا اس کے مساوی FCY میں، اگر FCY پروڈکٹ ہے۔	سروس چارج وصول کئے جائیں گے ہر کرنٹ/پی ایل ایس اکاؤنٹ پر جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بیان کردہ بیلنس حد سے کم ہو

ماہانہ اوسط بیلنس کی کم از کم حد	
کارپوریٹ کرنٹ اکاؤنٹ	100,000/- روپے
کارپوریٹ سیونگ اکاؤنٹ	500,000/- روپے
پیرول سروس	500/- روپے فی کس (یا معاہدے کے مطابق)
ڈیجیٹل اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس	
تین ماہ کے اندر	لاگو نہیں
تین ماہ سے زیادہ	35/- روپے فی ہدایت (ٹیکس شامل ہے)
(بی) سٹیٹمنٹ سروس	
(1) غیر ملکی نقد کا ڈپازٹ اور اخلا (ان لائن سروس کے لئے)	
غیر ملکی نقد کا ڈپازٹ	0.5% کم از کم - 5/ یو ایس ڈالر زیادہ سے زیادہ - 20/ یو ایس ڈالر
غیر ملکی نقد کا اخلا	لاگو نہیں
(2) چیک	
نئی چیک بک کا اجراء	کرنٹ اکاؤنٹ، لاگو نہیں
	سیونگ اکاؤنٹ - 5/- روپے فی چیک
	A4 ذاتی کارپوریٹ چیک بغیر کاربن کے - 10/- روپے فی چیک یا مساوی کرنسی میں
	A4 ذاتی کارپوریٹ چیک کاربن کے ساتھ - 12/- روپے فی چیک یا مساوی کرنسی میں
اسٹاپ پیمنٹ فی چیک	500/= روپے
کلیرنگ (بیرون)	10/ یو ایس ڈالر
ایک ہی تاریخ کی کلیرنگ	350/= روپے
لوکل یو ایس ڈالر کلیرنگ چیک	5/ یو ایس ڈالر
شہروں کے درمیان کلیرنگ بذریعہ NIFT	300/ فی دستاویز
چیک ریڈن چارجز	
نارل / ایک ہی دن / انٹرنی کے چیک بلا ادائیگی واپس آ گئے	300/ روپے فی چیک (سٹاپ ادائیگی اور دروازہ بینک کی غلطی کی وجہ سے جو چیک ریڈن ہوں، ان پر کوئی چارج نہیں)
کیش چیک (کاؤنٹر پر)	200/= روپے
(سی) ریٹیننس	
(1) غیر ملکی ریٹیننس (بیرون)	نوٹ - چارجز میں ٹیکس اور فیکس شامل ہے
TT پروسیڈنگ فیس (FCY)	0.08% @ اگر ICBC کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا - کم از کم 5/- یو ایس ڈالر زیادہ سے زیادہ - 40/ یو ایس ڈالر پلس سوئفٹ فیس = 10/ یو ایس ڈالر
	0.1% @ اگر کسی اور بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا تو کم از کم 5/- یو ایس ڈالر زیادہ سے زیادہ - 50/ یو ایس ڈالر پلس سوئفٹ فیس = 10/ یو ایس ڈالر
اضافی چارجز لاگو ہوں گے ان T/T پر جو "Our" کی ہدایت کے ساتھ ہوں گی	50/- یو ایس ڈالر
ریٹیننس اکٹوائزی	10/- یو ایس ڈالر
بیرون ٹی ٹی میں ترمیم / تحقیقات	10/- یو ایس ڈالر
ٹی ٹی مسنوفی	10/- یو ایس ڈالر
تنازعے کی وجہ سے T/T واپسی	10/- یو ایس ڈالر پرفرانزیکشن

2) غیر ملکی ریٹیننس (ان ورڈ)	نوٹ۔ چارجز میں ٹیکس اور فیڈ شامل ہے
اگر ICBC کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا	اگر CNY کرنسی میں ہے تو CNY/- 30 فی انسٹرکشن، دوسری کرنسی ہے تو بلا معاوضہ ہوگا۔
اگر کسی اور بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا۔	20/- یو ایس ڈالر
فنڈز کی عدم وصولی کے بارے میں انکوائری	10/- یو ایس ڈالر
T/T میں ترمیم واپسی	10/- یو ایس ڈالر
نمائندہ بینک کے چارجز	اصل رقم
چیک کلیکشن	0.25% کم از کم Rs. 250 زیادہ سے زیادہ Rs. 2500 کوریر چارجز اس کے علاوہ ہوں گے۔ ادائیگی والا بینک اپنے چارجز کاٹ سکتا ہے۔
3) انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر بذریعہ SBP's PRISM	RTGS کے ذریعے تھرڈ پارٹی فنڈز ٹرانسفر رقم کی حد
کسٹمر ٹرانسفر دس لاکھ روپے سے زائد بذریعہ PK103	صبح 9.00 بجے سے 2 بجے دوپہر تک -/220 روپے
	دوپہر 2.00 بجے سے 3.30 بجے دوپہر تک -/330 روپے
	دوپہر 3.30 بجے سے 4.30 بجے شام تک -/550 روپے
RTGS کی پروسیسنگ کے لئے 30 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ PK103 کے پروسیسنگ ٹائم کے مطابق کٹوتی کی جائے گی۔	
کسٹمر ٹرانسفر۔ ایک لاکھ سے سے زائد لیکن دس لاکھ سے کم (PK102) (ایک سے زیادہ کریڈٹ ٹرانسفر۔ PK102)	-/50 فی انسٹرکشن
4) انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر (آئی بی ایف ٹی)	-/50 روپے فی ٹرانسفر
ڈی) پے آرڈر	
PO کا اجراء	-/300 روپے، (-/25 روپے یا 0.5% فیس کا، جو کم ہو، اگر تعلیمی ادارے کے لئے بنایا جائے)
PO کی منسوخی	-/300 روپے
گمشدہ PO کی تبدیلی میں PO کا اجراء	-/1000 روپے
PO بحالی	-/300 روپے فی انسٹرکشن
ای) آن لائن بینکاری	
USB ٹوکن کا اجراء	-/500 روپے
USB ٹوکن کی تبدیلی	-/1000 روپے
پاس ورڈ ٹوکن کا اجراء	-/500 روپے
لاگ ان پاس ورڈ کی ری سیٹ	لاگو نہیں
USB ٹوکن پاس ورڈ کی ری سیٹ	لاگو نہیں
سالانہ فیس	لاگو نہیں
ایف) متفرق	* خاص ریٹ صرف ویلیوڈ کسٹمرز پر لاگو ہونگے
آڈیٹر کوٹیننس کی تصدیق	-/500 فی سرٹیفکیٹ
اداشدہ چیک کی فوٹو کاپی کسٹمر کے حوالے	
1 سال کے اندر	-/300 روپے فی چیک
1 سال سے زائد	-/1000 روپے فی چیک
بینک کے ساتھ کیے گئے لین دین کے حوالے سے جاری کردہ کوئی اور بینک سرٹیفکیٹ، ماسوائے جو قانونی ذمہ داری کے تحت جاری کیا ہو۔ (BPRD سرکیولر نمبر 23-2015 بتاریخ جولائی اکتوبر 2015 کی روشنی میں دوہولڈنگ سرٹیفکیٹ مفت فراہم کیا جائے گا)	-/300 فی سرٹیفکیٹ

6 ماہ کے اندر - 300/- روپے فی سرٹیفکیٹ	Proceed Realization / Encashment / سرٹیفکیٹ / Deposit سرٹیفکیٹ کا اجراء
6-12 ماہ کے اندر - 500/- روپے فی سرٹیفکیٹ	
12 ماہ کے بعد - 1000/- روپے فی سرٹیفکیٹ	
5,000/- ماہانہ فی اکاؤنٹ	ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ سروس MT940
بینک کی طرف سے دستخط کئے گئے معاہدے کے مطابق (حسب معاملہ)	Escrow اکاؤنٹ ٹرسٹی سروس
لاگو نہیں	ICBC پیغام سروس (موبائل پر SMS اور ای میل)
100,000/- تک - 10/- روپے 1,000,000/- تک 20 روپے 1,000,001 سے زائد - 50/- (بشمول سیلز ٹیکس)	سرکاری ٹیکس اور ڈیوٹی جمع کرنے کی فیس فرد سے گورنمنٹ کو ادائیگی (P2G)
50/- روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول سیلز ٹیکس)	سرکاری ٹیکس اور ڈیوٹی (1-Link) OTC (over the Counter) کی سہولت کے ذریعے جمع کروانے کی فیس
	جی) ڈیجیٹل کارڈ
	اجراء فیس
300/- روپے	عام ڈیجیٹل کارڈ
350/- روپے	ایلیٹ کلب کارڈ (گولڈ کارڈ)
	سالانہ فیس
300/- روپے	عام ڈیجیٹل کارڈ
500/- روپے	ایلیٹ کلب کارڈ (گولڈ کارڈ)
	ڈیجیٹل کارڈ اجراء فیس
500/- روپے	عام ڈیجیٹل کارڈ
1000/- روپے	ایلیٹ کلب کارڈ (گولڈ کارڈ)
	ATM کے ذریعے تیلیس اکوآری
لاگو نہیں	ATM کا اپنا
5/- روپے	1 Link ATM/MNet ATM
	ATM کے ذریعے کیش نکالنا
لاگو نہیں	ICBC کے ATM سے
15/- روپے پر ٹرانزیکشن	1 Link/MNet ATM

اچ) بلا معاوضہ سروسز

- مندرجہ ذیل سروسز پر کوئی بینک چارجز لاگو نہیں ہوں گے اگر کسٹمر کرنٹ اکاؤنٹ پر ماہانہ اوسط پچیس لاکھ اور سیونگ اکاؤنٹ پر ماہانہ اوسط پچاس لاکھ بیلنس رکھتا ہے
- 1) چیک ریٹرن
 - 2) شہروں کی درمیان کلیرنگ
 - 3) ایک ہی تاریخ کی کلیرنگ
 - 4) لوکل یو ایس ڈی کلیرنگ
 - 5) اسٹاپ پیمنٹ آف چیک
 - 6) بے آر ڈر کی منسوخی / بحالی
 - 7) ڈیجیٹل اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس

8) Proceed Realization/Encashment/Certificate of Deposit کا اجراء

ٹریڈ فنانس

معیاری چارجز	سروس
	(اے) برآمد
	(1) لیٹراف کریڈٹ
کسٹمر -/2000 روپے، غیر کسٹمر -/3000 روپے یکساں شرح سے	ایل / اسی ایڈوائزنگ چارجز
-/1000 روپے فی کیس	ایل / اسی ترمیم ایڈوائزنگ چارجز
0.1% فی ویلیو، کم از کم -/15 یو ایس ڈالر زیادہ سے زیادہ -/50 یو ایس ڈالر اگر ڈکومنٹ ہمارے بینک سے ڈسکاؤنٹ کئے گئے ہیں یا کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تو چارجز کسٹمرز کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیو ڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔	برآمدی ایل / اسی کے تحت روپے میں بلوں کی گفت و شنید
-/15,000 روپے پلس کوریئر ICBC کے منظور شدہ ویلیو ڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔	برآمداتی ایل / اسی کا ٹرانسفر
-/5000 روپے پلس کوریئر	برآمداتی ایل / اسی کے ٹرانسفر میں ترمیم
0.1% فی ویلیو، کم از کم -/15 یو ایس ڈالر زیادہ سے زیادہ -/50 یو ایس ڈالر اگر ڈکومنٹ ہمارے بینک سے ڈسکاؤنٹ کئے گئے ہیں یا کسی تصدیق کی ضرورت نہیں تو چارجز کسٹمرز کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیو ڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔	برآمداتی ایل / اسی کے ٹرانسفر کا کمیشن
0.1% فی ویلیو پلس -/30 یو ایس ڈالر	2nd ہینڈلنگ کے ڈکومنٹ ہینڈلنگ چارجز
	(2) بلز
	کلکیشن
ویلیو کا 0.10%، کم از کم -/15 یو ایس ڈالر، زیادہ سے زیادہ -/50 یو ایس ڈالر	ڈکومنٹری کلکیشن
	(3) متفرق
ویلیو کا 0.25%، کم از کم -/250 روپے	ڈیوٹی ڈرایبک کے کلیم کی ہینڈلنگ
-/1000 روپے یکساں شرح	فریٹ سبسڈی کے کلیم کی ہینڈلنگ
-/500 روپے فی کیس	ایس بی پی سے منظوری لینے کے لیے
-/300 روپے فی کیس اور اصل چارجز جو حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً لاگو کئے جائیں گے۔	ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کی وصولی (EDS)
	(بی) درآمد
	(1) لیٹراف کریڈٹ
0.5% پہلی سہ ماہی یا اس کے حصے کے لئے، کم از کم -/30 یو ایس ڈالر 0.25% ہر مہینہ سہ ماہی یا اس کے حصے کیلئے (100% کیش مارجن کی صورت میں کوئی چارجز نہیں ہوں گے)۔ اگر ایل سی -/100,000 ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا ایل سی 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھویں گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیو ڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔	اوپننگ کمیشن

ایل اسی کی ترمیم پر کمیشن	اگر ترمیم شہنشاہ کی مدت میں توسیع یا رقم کے اضافے کی وجہ سے ہو تو یو ایس ڈالرز - 15/ یکساں لاگو ہو گے یا کمیشن جو اس پر بنتا ہے
ایل اسی منسوخی کے چارجز	یو ایس ڈالرز - 15/ پلس سوئفٹ چارجز
2۔ بلز	
لیٹر آف کریڈٹ کے تحت مقررہ مدت میں نکلائے گئے بلز	10/- یو ایس ڈالرز بل کی ریٹائرمنٹ کے وقت چارج کیا جائے گا۔ اضافی ماہانہ کمیشن 0.2 فیصد کی شرح پر، کم از کم - 5/ یو ایس ڈالرز، لیٹر آف کریڈٹ کی مدت کے بعد بل کی میچورٹی تک چارج کیا جائے گا۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
ایئر وے بلز کی توثیق / شپنگ ضمانت جاری کرنا	اگر 100% کمیشن مارجن ہو، - 1500/ روپے پہلے مہینے یا اس کے کچھ حصے کے لیے اور - 1500/ روپے ہر مہینے یا اس کے کچھ حصے کے لیے۔ اگر کمیشن مارجن نہ ہو تو، 0.25 فی کیس، کم از کم - 1500/ روپے ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
مقررہ مدت بلز پر کمیشن کی وصولی	- 30/ یو ایس ڈالرز فی بل یا اس کے مساوی
ڈسکریٹ ڈسٹاویز کی ہنڈلنگ	- 70/ یو ایس ڈالرز
درآمدی بلز کی وصولی	0.1% ویلیو کا، کم از کم - 10/ یو ایس ڈالرز، زیادہ سے زیادہ - 50/ یو ایس ڈالرز ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
غیر ادا آئیٹمز کی واپسی	- 70/ یو ایس ڈالرز
3۔ درآمد کھپ کی بنیاد کے تحت	
کنٹریکٹ کی رجسٹریشن	0.25% کم از کم - 2000/ روپے ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
کنٹریکٹ میں ترمیم (اور پینل کنٹریکٹ بینک کو واپس کرنا ہوگا)	- 1000/ روپے یا اوپر والے آئٹم کے مطابق اگر ترمیم بشمول رقم کا اضافہ
درآمدی ڈسٹاویز کی وصولی	0.10% ویلیو کا، کم از کم 15/ یو ایس ڈالر، زیادہ سے زیادہ - 50/ یو ایس ڈالر پلس سوئفٹ چارجز
درآمد پر سروس چارجز جہاں نہ ایل اسی کھولی ہو نہ کنٹریکٹ رجسٹرڈ ہو	0.25% کم از کم - 2000/ روپے یا زیادہ سے زیادہ - 5000/ روپے پلس ریٹینس اور سوئفٹ چارجز ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
ریٹائرمنٹ / ہر وصولی بلز کی ادائیگی پر / ایڈوانس ادائیگی پر سروس چارجز	0.20% کم از کم - 2000/ روپے ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
اے) اگر غیر ملکی زرمبادلہ ہماری بینک سے لیا گیا ہو	0.1% بلز کی رقم پر، کم از کم - 2000/ روپے ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔

کسٹریٹ کی منسوختی	1500/- روپے
(4) متفرق	
ایف او بی کی بنیاد پر درآمد کے لیے فریٹ سٹیفیکٹ کا اجراء	1000/- روپے فی کیس
اصلی دستاویزات کی عدم موجودگی میں ایئر وے بل کی ریلیز کے لیے ڈیوری آرڈر کا اجراء	1500/- روپے یکساں شرح سے
کریٹ انفارمیشن رپورٹ بمشول غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی رپورٹ	اصل پلس - 500/- روپے سروس چارج
سی (ضمانتیں	
1۔ ضمانتوں کا اجراء	
ڈیوٹیز / لیویز کی ادائیگی کی بجائے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حق میں جاری کردہ مساوی روپے میں ضمانتیں	0.5% سہ ماہی یا اس کے حصے کے لیے، کم از کم - 3000 روپے، اگر ضمانت 100,000/- یو ایس ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا ضمانت 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھ کی گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
کسٹمرز کی درخواست پر پاکستان میں جاری کردہ ضمانتیں	0.5% سہ ماہی یا اس کے حصے کے لیے، کم از کم - 3000 روپے، اگر ضمانت 100,000/- یو ایس ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا ضمانت 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھ کی گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ البتہ یہ ایک سہ ماہی میں 0.15 فیصد سے کم یا - 2000 روپے جو بھی زیادہ ہو ارجنٹ پروسینگ چارجز - 500/- یو ایس ڈالر (اگر LG-48 گھنٹے میں ایٹھ کی جائے، مکمل دستاویز اور تمام شرائط طے کرنے کے بعد) ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
بیرون ملک بینک کی درخواست پر پاکستان سے باہر جاری کردہ ضمانتیں	0.5% سہ ماہی یا اس کے حصے کے لیے، کم از کم - 300 یو ایس ڈالر، اگر ضمانت 100,000/- یو ایس ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا ضمانت 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھ کی گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ البتہ یہ ایک سہ ماہی میں 0.15 فیصد سے کم یا - 100 روپے جو بھی زیادہ ہو ارجنٹ پروسینگ چارجز - 500/- یو ایس ڈالر (اگر LG-48 گھنٹے میں ایٹھ کی جائے، مکمل دستاویز اور تمام شرائط طے کرنے کے بعد) ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈکسٹرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
نوٹ: اوپر دیئے گئے چارجز کی فریکوئنسی کسٹمرز کے ساتھ باہمی معاہدے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔	
2۔ ترمیم کے چارجز	
جاری کردہ ضمانتوں میں ترمیم	80/- یو ایس ڈالر فی ترمیم پلس کمیشن آئٹم نمبر 1 کی بنیاد پر
3۔ دیگر اخراجات	
بینک کی طرف سے کئے جانے والے تمام اخراجات (بیک ٹوبیک ضمانتیں)	30/- یو ایس ڈالر کی بل چارجز۔ انتظام کے مطابق کوریئر چارجز وصول کیے جائیں گے۔
4۔ پینشری کی طرف سے کلیم	
سروس چارجز	3000/- روپے پلس دیگر چارجز جو بینک نے ادا کئے ہیں
اضافی رسک مینجمنٹ (جانشین کا جوابی ضمانت میں توسیع کا مطالبہ)	گارنٹی کے لیے جہاں کوئٹہ گارنٹی بینک کا توسیع کا پیغام آخری تاریخ سے 72 گھنٹوں کے اندر حصول ہوتا ہے تو یہ ایک سہ ماہی میں کم از کم 0.2% یا USD 200 بھی زیادہ ہو۔

5- ضمانت پرائیڈ وائس	
سروس چارجز	کسٹمر- 2000/- یکساں شرح سے، غیر کسٹمر- 3000/- یکساں شرح سے
6- ضمانت میں ترمیم کے ایڈوانسری چارجز	
سروس چارجز	1000/- روپے فی کیس
ڈی) ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ	
1- ایل/ اسی اوپننگ	
کمیشن	0.4% سہ ماہی یا اس کے حصے کے لیے، کم از کم - 1500/- روپے، اگر ایل/ اسی - 100,000/- یو ایس ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھوی گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈ کسٹمرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
2- ایل/ اسی ترمیم	
کمیشن	1000/- روپے یا کمیشن اسٹم نمبر 1 کی بنیاد پر، کم از کم - 1000/- روپے اگر ترمیم شپمنٹ کی مدت میں توسیع یا رقم میں اضافے کی وجہ سے کی گئی ہو
3- لیٹر آف کریڈٹ کے تحت مقررہ مدت میں نکلوائے گئے بلز	
سروس چارجز	1000/- روپے بل کی ریٹائرمنٹ کے وقت چارج کیے جائیں گے اور 0.2% کم از کم - 500/- روپے فی مہینہ ایل/ اسی کی معیاد ختم ہونے کے بعد کے عرصے میں۔ اگر ایل/ اسی - 100,000/- یو ایس ڈالر یا اس سے زائد کی ہے یا 100% کیش مارجن کے بدلے ایٹھوی گئی ہے تو چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈ کسٹمرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
4- گفت و شنید	
سائٹ بلز	کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق
مقررہ مدت والے بلز	کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق
5- دستاویزات کی وصولی	
سروس چارجز	0.3% ویلیو کا، کم از کم - 1000/- روپے ICBC کے منظور شدہ ویلیوڈ کسٹمرز کے لیے چارجز کیس کے مطابق طے کیے جائیں گے۔
6- دیگر	
سروس چارجز	کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق
- سوئفٹ چارجز (ICBC HO. کے ذریعے ITPC)	- 30/- یو ایس ڈالر فی کیس
- ایس بی پی سے Form M کی منظوری کے چارجز	- 1000/- فی کیس
- انٹرنیشنل کوریئر چارجز	- 30/- یو ایس ڈالر
- پینٹل کوریئر چارجز	اصل
- اسٹیپ پیجر کے چارجز	اصل، جو گورنمنٹ لاگو کرے گی۔
- کریڈیٹ برنس ایجنٹ سروس	چارجز کاروبار کی خصوصیت / رقم / مارکیٹ کی قیمت پر مبنی ہو گئے اور کسٹمر کے ساتھ باہمی رضامندی سے طے ہو گئے۔

(ای) انضامی واکتسابی مشاورتی خدمات	
کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق	- کراس بارڈر M&A کی مشاورتی خدمات کی فیس
کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق	- سکیس نی
کسٹمرز کے ساتھ معاہدے کے مطابق	- معیاری کام کے اخراجات
اصل میں اور بینک کی عملے کی بنیادی سطح پر توجہ دینے کی سطح کے مطابق ہوگا۔	- سفر لاگت

جنرل

- 1- چار جزی کا یہ شیڈول 6 ماہ کی مدت (یکم جولائی 2019 تا اکتیس دسمبر 2019) کے لیے کارآمد ہے۔
- 2- تمام گورنمنٹ ٹیکس / ڈیوٹی / اسٹیپ ڈیوٹی کسٹمر اکاؤنٹ کو بینک چار جزی کے علاوہ چارج کی جائیگی۔
- 3- قانونی چار جزی کسٹمرز سے اصل کی بنیاد پر لیے جائیں گے اور یہ ٹرانزیکشن چار جزی کے علاوہ ہوں گے۔
- 4- مختلف پروڈکٹ / سروسز پر قیمت / حجم کا ڈسکاؤنٹ مینجمنٹ کی رضامندی سے دیا جاسکتا ہے۔
- 5- غیر ملکی کرنسی میں متعین کیے گئے چار جزی مساوی روپے میں وصول کیے جائیں گے۔
- 6- بینک وقتاً فوقتاً ایسی آفر متعارف کرسکتا ہے جس میں موجود فیس / چار جزی پروڈسکاؤنٹ / معافی دی جاسکتی ہے۔
- 7- اوپر دیئے گئے تمام چار جزی پر رعایت کسٹمرز کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت ہوگی جو مینجمنٹ سے منظور شدہ ہوگا۔
- 8- بینک کے ایسے تمام اخراجات جو اس شیڈول میں نہیں دیئے گئے وہ کسٹمرز سے اصل خرچ پر روپے یا مساوی غیر ملکی کرنسی میں وصول کیے جائیں گے۔
- 9- چار جزی سی ای او یا اُسکے مندوب کی منظوری کے ساتھ کاروباری حجم کی بنیاد پر ویلیوڈ کسٹمرز کی صورت میں مذاکرات کے تابع ہیں۔
- 10- ویلیوڈ کسٹمرز میں شامل ہیں وہ ادارے جو چائنا پاکستان اقتصادی کوریڈور (CPEC) پر کام کر رہے ہیں، ادارے جن کی پاکستان میں پانچ ملین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہے، اُن کے نمائندے، ایس پی وی، ای پی سی ٹھیکیدار، سپانسرز کی طرف سے CPEC منصوبوں کے لئے آپریشن اور مینٹیننس کی کمپنیاں، سفارت اور کنسل خانہ اور اُن سے منسلک لوگ، کیش اور انوسٹمنٹ بینکاری کے کسٹمرز، قرض کے کسٹمرز، کم کریڈٹ کے خطرے کا کاروبار، برانچ کے دس بڑے لوکل کسٹمرز، وہ ادارے جن کے برانچ کی ہیڈ آفس سے تعلقات ہیں، ایسے کسٹمرز کو بینک اپنی صوابدید پر خصوصی ریٹ یا فیس سے چھوٹ دے سکتا ہے۔

جزل

- 11- انفرادی کسٹمرز میں شامل ہیں وہ لوگ جو برانچ کے کارپوریٹ کسٹمرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ویلیڈ ورک ویزہ رکھتے ہیں (مقامی پاکستانی ورکرز کے علاوہ)، افراد جو بروقت ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان میں سفارتی ایجنٹ ہیں، لوکل ملازم اور دیگر کسٹمرز جو برانچ کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مقرر کئے گئے ہوں۔ برانچ اپنے انفرادی کسٹمرز کو اپنے کارپوریٹ کسٹمرز کے لئے ایک مضبوط تکمیل سمجھتا ہے، تاہم برانچ کا مرکزی کاروبار کارپوریٹ کاروبار کی طرف توجہ مرکوز ہے اور انفرادی کسٹمرز پر نہیں۔
- 12- پیٹی اکاؤنٹ مینجمنٹ اور ترسیلات سروس سفارت اور کنسل خانہ کے لئے، اس کے ملازمین اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لئے مفت ہوگی۔
- 13- اگر برانچ اور SOC کے چارج کردہ فیس کے درمیان کوئی تنازعہ ہوا تو بعد والا لاگو ہوگا۔
- 14- مینجمنٹ اپنی صوابدید سے ڈپازٹ پروڈکٹ پر زیادہ شرح منافع آفر کر سکتی ہے۔
- 15- ماہانہ اوسط بیلنس سے مطلب ہر دن کے آخر بیلنس کا اوسط ہے۔
- 16- کم از کم بیان کردہ بیلنس کی شرط، اکاؤنٹ مینجمنٹ اور ڈورمنٹ اکاؤنٹ کے چارجز فنانس یا ESCROW معاہدے کرنے والے کسٹمرز پر لاگو نہیں ہوگا۔
- 17- اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے مندرجہ ذیل صورتوں میں کوئی ابتدائی ڈپازٹ کی ضرورت نہیں (i) مستحقین زکوٰۃ (ii) طالب علم (iii) سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کی تنخواہ یا پنشن کیلئے (بشمول مرحوم ملازمین کے بیوہ/بچے جو خاندانی پنشن بینویلٹ فنڈز کے حقدار ہیں) یا اس سے مماثلت رکھتے اکاؤنٹ۔ (iv) خیراتی امدادی فنڈ وغیرہ (v) شہری کمیونٹی بورڈز کے اکاؤنٹس (vi) اسکولوں کی انتظامی کمیٹی کے اکاؤنٹس (vii) پینشن کیلئے کھولے گئے اکاؤنٹس (viii) بوڑھے اور معذور افراد کے طرف سے کھولے گئے اکاؤنٹس۔ ایسے اکاؤنٹ کم از کم بیلنس کی ضروریات سے مستثنیٰ ہوں گے۔
- 18- طلباء سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے اگر فیس براہ راست تعلیمی ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جا رہی ہو۔
- 19- گھریلو ترسیلات پر کوئی چارجز عائد نہیں ہوں گے۔
- 20- اکاؤنٹ کھولنے اور کم از کم بیلنس چارجز صرف ICBC اسٹاف سیلری اکاؤنٹ پر لاگو نہیں ہوں گے۔
- 21- ایسے اخراجات کو اس دستاویز میں موجود نہیں، وہ اصل کی بنیاد پر چارج کئے جائیں گے۔
- 22- آسان اکاؤنٹ پر کوئی کم از کم بیلنس کی ضرورت اور چارجز لاگو نہیں ہیں۔